



## سوال

مفقود الخبر خاوند کی بیوی کیا کرے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر کسی عورت کا مرد گم ہو گیا ہو اور پانچ چھ سال کے بعد وہ واپس آجائے، لیکن وہ عورت اس سے دوبارہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہو تو کیا وہ اس مرد کی بیوی اب پانچ سال کے بعد بھی ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

گمشدہ شوہر کو فقہی اصطلاح میں مفقود الخبر کہا جاتا ہے۔ زوجہ مفقود کے نکاح ثانی کے متعلق علمائے امت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے قرین قیاس مذہب امام مالک کا ہے، حتیٰ کہ اب تو احناف بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ ہے کہ: "جس عورت کا خاوند گم ہو جائے اور اس کا پتہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ تو وہ عورت چار سال تک انتظار کرے پھر چار ماہ دس دن عدت گزار کر چاہے تو دوسرا نکاح کرے۔" (موطا امام مالک: کتاب الطلاق)

یہ عورت اگر چاہتی تو چار سال بعد عدالت سے رجوع کر کے اپنا پہلا نکاح فسخ کروا کر (چار ماہ دس دن عدت گزارنے کے بعد) آگے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے چونکہ ایسا نہیں کیا ہے اور ویسے ہی بیٹھی رہی ہے۔ لہذا یہ عورت ابھی تک اپنے پہلے خاوند کی ہی بیوی ہے اور ان کا نکاح ابھی تک باقی ہے۔ باقی اگر وہ اس مرد کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تو اس سے طلاق لے لے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت کے ذریعے نزع لے کر اس سے آزاد ہو سکتی ہے۔

حدامہ عنہم والحمد للہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ



مجلس البحث الإسلامي  
مجلس البحث الإسلامي